

اسلامک نان ریزیڈنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹس کے لیے حقائق پر مبنی اہم بیان (یکم جولائی 2025 سے مؤثر)

شمارہ:.....		اہم بات: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو بخور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لیے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لیے دوسرے بینکوں کے ایف اےس وصول کرنے کا حق ہے۔		تاریخ:	
برانچ:.....		اکاؤنٹ کی اقسام اور اس کی نمایاں خصوصیات: یہ معلومات مذکورہ برانچ کے مطابق درست ہیں۔ خدمات، فیس اور منافع کے ریٹ ششماہی بنیاد پر تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ ہماری میعادتی فیس / چارجز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com یا ہماری برانچ ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔			
تفصیلات		نان ریزیڈنٹ کرنٹ اکاؤنٹ			نان ریزیڈنٹ سیونگر اکاؤنٹ
		رہسٹریز بل (این آر اے آر)	نان رہسٹریز بل (این آر اے این)	قادران کرنسی (این آر ایف سی وائی)	رہسٹریز بل (این آر اے آر)
کرنسی		پاکستانی روپے			پاکستانی روپے
اکاؤنٹ کے لیے کم سے کم بیلنس		5000 روپے			5000 روپے
		0 روپے			0 روپے
اکاؤنٹ کی منتقلی فیس		0 روپے			
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جاتا ہے؟ قابل اطلاق فیس کی شرح سے شروع ہے۔		قابل اطلاق نہیں			
منافع بیلنس اشارے (x) سالانہ					
منافع کی ادائیگی کی تعداد					
مثلاً 1000 روپے پر آپ چھین کر دھت میں۔۔۔ کا سکتے ہیں۔					
قبل از وقت / جلد انکمیشنٹ / انٹرا کی فیس		قابل اطلاق نہیں			
قسم		نان ریزیڈنٹ کرنٹ اکاؤنٹ			نان ریزیڈنٹ سیونگر اکاؤنٹ
		رہسٹریز بل (این آر اے آر)	نان رہسٹریز بل (این آر اے این)	قادران کرنسی (این آر ایف سی وائی)	رہسٹریز بل (این آر اے آر)
کیلز و بروکیٹس		ایمر علی			
		ایمر علی			
		بیک کے اے ٹی ایم سے وڈر ڈائل			قابل اطلاق نہیں
		دیجیٹل کے اے ٹی ایم سے وڈر ڈائل			
بین الاقوامی اے ٹی ایم / پوائنٹ آف سئل (POS) / بین الاقوامی آن لائن / POS / پوائنٹ آف سئل		500 روپے فی ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکشن کا 4.50% جو بھی زیادہ ہو	قابل اطلاق نہیں	500 روپے فی ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکشن کا 4.50% جو بھی زیادہ ہو	قابل اطلاق نہیں

سر و سبز	اقسام	ٹان ریز پرفٹ گرنٹ اکاؤنٹ			ٹان ریز پرفٹ سیلنگز اکاؤنٹ	
		رہسٹریڈ ٹیل (این آر اے این)	ٹان رہسٹریڈ ٹیل (این آر اے این)	قادران کرنسی (این آر ایف سی، ڈائی)	رہسٹریڈ ٹیل (این آر اے این)	
	اے ڈی سی / ڈیجیٹل	0 روپے				
ایس ایم ایس، ال آرٹ	دیگر ڈرائنگشن کے لیے	250 روپے ماہانہ۔ 0.8 ڈالر ماہانہ یا سادہ قاریان کرنسی				
ڈیجیٹل کارڈ	ماہر کارڈ اسٹیررو	3,500/- روپے		قابل اطلاق نہیں		
	ماہر کارڈ گولڈ	4,500/- روپے				
	پے پاک	2,700/- روپے		قابل اطلاق نہیں	2,700/- روپے	
چیک بک	اجراء	30 روپے فی ایف پی سادہ دی دیگر کرنسی				
	اسٹاپ پیمنٹ	کم سے کم 800 روپے فی انفرکشن اور زیادہ سے زیادہ 1600 روپے فی انفرکشن (حلقہ چیک کی صورت میں)				
ترسیلات زر (مقامی)	ٹیکر چیک / پے آرڈر	500 روپے قیمت		قابل اطلاق نہیں		
ترسیلات زر (غیر مقامی)	قاریان ڈیٹا ڈرافٹ	320 ڈالر یا سادہ کیج 0.10 فیصد سوئفٹ چار جزیام ان کم 1000 روپے		قابل اطلاق نہیں	320 ڈالر یا سادہ کیج 0.10 فیصد سوئفٹ چار جزیام ان کم 1000 روپے	
	ماہر ڈرافٹ / قاریان ٹیلی گرافک ڈرافٹ (FTT) / قاریان ورڈر پیمنٹس	37 ڈالر یا سادہ کیج 0.10 فیصد سوئفٹ چار جزیام ان کم 1000 روپے			37 ڈالر یا سادہ کیج 0.10 فیصد سوئفٹ چار جزیام ان کم 1000 روپے	
اکاؤنٹ کی اسٹینڈ	مالانہ، ششماہی	0 روپے				
	نقل	35 روپے یا سادہ دی دیگر کرنسی (شمارل ایف ای ڈی)				
فلڈ ڈرافٹ	اے ڈی سی / ڈیجیٹل پیمنٹ	0 روپے				
	آئی بی ایف ٹی	25000 روپے ماہانہ تک 0 روپے، 25000 سے نامہ 0.1 200 روپے فی ڈرائنگشن جو بھی کم ہو (شمارل ایف ای ڈی)		قابل اطلاق نہیں	25000 روپے ماہانہ تک 0 روپے، 25000 سے نامہ 0.1 200 روپے فی ڈرائنگشن جو بھی کم ہو (شمارل ایف ای ڈی)	
ڈیجیٹل پیمنٹنگ	فون / موبائل / ایئر پیمنٹنگ سیکریشن (مکملی ادارہ سالانہ)	0 روپے				
کلیئرنگ	ماربل	قابل اطلاق نہیں		0 روپے	6 امریکی ڈالر ضروری انفر ومنت کر ایچ بی آر انچر کے لیے، دوسرے شیروں کے لیے 8 امریکی ڈالر ضروری انفر ومنت	
	ایئر ٹی			350 روپے فی انفر ومنت		
	ای کی دن			600 روپے فی انفر ومنت		
اکاؤنٹ کی بندش	کسٹمر کی درخواست	300 روپے، 30 ڈالر یا سادہ دی دیگر کرنسی یا جو بھی کم سے کم پیمنٹس دستیاب ہو (اکاؤنٹ کے باقیہ پیمنٹس کے لیے ٹیکر چیک جاری کرنے کے چار جزیامانی ہوں گے)				

اکاؤنٹ کھولنے کے لیے مطلوبہ اشیاء: اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ریگولیری ڈیجیٹل اور بینک کی داخلہ پالیسی کے مطابق شناخت کی چند ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات کی فراہمی شامل ہو سکتی ہے۔ برائے مزید ہدایتی مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔

چیک باؤنس: ڈیجیٹل باؤنس پاکستان بینک کو ڈیجیٹل 4849 کے مطابق چرمانہ غفلت ہے۔ اسے مناسبت سے آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ لکھنا چاہیے۔

سیف کسٹڈی: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی کے ڈیجیٹل محفوظ تحویل جیسے ڈیجیٹل کارڈ، پین کوڈز، جیکس، ای بی بینکنگ پوزریم اور دیگر ڈیجیٹل معلومات و غیرہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے سیکورٹی فراہمی کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں لیا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کے لیے سیری بینک کی جانب سے آپ کو کبھی بھی کال نہیں کی جائے گی۔

ریکارڈ اپڈیشن: کبھی کبھی اہم مواصلات کی خوردی سے بچنے کے لیے ہمیشہ بینک کے پاس موجود واپس / ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرانے کے لیے مختلف برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

اگر آپ اس اکاؤنٹ کو بحال کر کے استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا اکاؤنٹ بارہ (12) ماہ تک غیر فعال رہتا ہے (یعنی کوئی ڈیجیٹل یا کریڈٹ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی یا ڈیجیٹل چھوٹے ذریعے لاگ ان نہیں ہوتا) تو اس کو غیر فعال سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا ہے تو آپ کو اکاؤنٹ سے کوئی بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے آپ کو بینک کے قسوں کو پورا کرنے کے لیے بینک کے ریکارڈز میں رجسٹرڈ ذرائع یا چھوٹے ذریعے یا قاعدہ طور پر پھرتی ہوتی اور خطہ شدہ درخواست جمع کرنا ہوتی۔ بینک اکاؤنٹ کی صورت میں اگر آپ ہرچہ مابعد یا غیر بینک شدہ ذرائع یا نافذ سرعیت کے ذریعے یا کام کرتے ہیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ یعنی منقطع (بند / بند / بند) کی صورت میں اگر آپ نان ہرن سرعیت کے ذریعے یا 30 ستمبر یا اس سے پہلے متعلقہ ذریعے یا کام کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔

تاریخ:		کسٹمر کا نام:	
منتخب شدہ پروڈکٹ:			
اکاؤنٹ میڈیٹ:		سٹاک / جو اے / آئینہ ریا سردار نیو	
پتہ:			
برائے رابطہ:			
ای میل یا پرنس:		موبائل نمبر:	
کسٹمر کے دستخط:		تصدیق شدہ دستخط:	